

ہمارا تعارف؟

ASAP اسانلم سپورٹ اپیلز پروجیکٹ کا مخفف ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا رفاہی ادارہ ہے جو پناہ گزینی سے متعلق اعانت کے قانون پر مرکوز ہے۔ اسانلم سپورٹ کا مطلب ہے ہوم آفس کی طرف سے ان لوگوں کو رہائش اور معاونت فراہم کرنا جو پناہ گزینی تلاش کر رہے ہیں۔ ہوم آفس اور اسانلم سپورٹ ٹرائیونل سے آزاد ہیں۔ ہمارا ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم ایک ڈیوٹی اسکیم چلاتے ہیں جو اسانلم سپورٹ ٹرائیونل میں لوگوں کو مفت مشاورت اور نمائندگی کی خدمات پیش کرتے ہیں جب وہ ہوم آفس کی جانب سے اعانت کی فراہمی یا اسے جاری رکھنے سے انکار کے فیصلے کے خلاف اپیل کر رہے ہوں۔

چونکہ ہمارا ادارہ ایک چھوٹا سا رفاہی ادارہ ہے لہذا ہم ہمیشہ ہمارے پاس ریفر کیے جانے والے ہر شخص کی نمائندگی نہیں کر پاتے۔ ہم حتی المقدور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی نمائندگی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر ہم آپ کی نمائندگی نہ کر سکیں، تو ہم آپ کو آپ کی سماعت سے پہلے بتا دیں گے۔

براہ کرم نوٹ کریں کہ ہم اسانلم کلیم اپیلز یا امیگریشن کی معاملات میں نمائندگی فراہم نہیں کرتے، ہم صرف اسانلم سپورٹ اپیلز کے حوالے سے معاونت کر سکتے ہیں۔

اپنی نمائندگی کرنے کے لیے آپ ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں؟

اگر کوئی اعانت کے حصول کے لیے درخواست دینے میں آپ کی مدد کر رہا ہے، تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا ریفرل اور اتھارٹی فارم مکمل کر کے آپ کو ہمارے پاس ریفر کریں۔ اگر اعانت کے لیے درخواست دینے میں کوئی آپ کی مدد نہیں کر رہا ہے تو اپنی سماعت سے پہلے آپ ہمیں اپنا دستخط شدہ اتھارٹی فارم بھیج کر خود سے ہمارے پاس آ سکتے ہیں، جو آپ کو ہماری ویب سائٹ www.asaproject.org/contact/referrals پر مل سکتا ہے۔ آپ کو اپنا فارم بذریعہ ای میل اس پتہ پر بھیجنا چاہیے: referrals@asaproject.org.uk

اگر ہم آپ کی نمائندگی کرتے ہیں، تو کیا ہو گا؟

اگر ہم آپ کی نمائندگی کرتے ہیں، تو ٹرائیونل میں آپ کی آمد پر آپ کو ایک نمائندہ ملے گا۔ آپ کو اپنی سماعت سے کم از کم ایک گھنٹہ پہلے وہاں پہنچنا چاہیے۔ نمائندہ آپ سے کچھ سوالات پوچھے گا تاکہ وہ آپ کے کیس کو بہتر طور پر سمجھ سکے۔ بعض اوقات یہ سوالات نہایت ذاتی نوعیت کے بھی ہو سکتے ہیں اور اکثر سوالات بہت تفصیل سے پوچھے جاتے ہیں اور آپ کے مالی حالات اور یہ کہ آپ کا گزارہ کیسے ہوتا ہے کے بارے میں مخصوص معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایسے سوالات پوچھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اپیل میں کامیابی کے بہترین امکانات پیدا کیے جائیں۔ آپ کے نمائندہ کو معلوم ہوتا ہے کہ جج اور ہوم آفس کے نمائندے آپ سے کس قسم کے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ یہ سوالات پہلے پوچھ لینے سے سماعت کے لیے آپ کی تیاری ہو جاتی ہے اور آپ کے نمائندہ کو بھی آپ کے کیس کی تیاری میں مدد مل جاتی ہے۔

کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سے ملاقات کے بعد اور آپ کے کیس کا جائزہ لے کر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہماری جانب سے نمائندگی نہ کرنا آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا ہے، تو بھی ہم آپ کو آپ کی سماعت سے پہلے اور بعد میں مشاورت فراہم کریں گے۔

جب آپ پہلی مرتبہ اپنے نمائندہ سے ملتے ہیں، تو وہ آپ کو ایک فارم پر دستخط کرنے کو کہیں گے جس میں یہ بیان ہوتا ہے کہ آپ ASAP کو اپنی نمائندگی کی اجازت دیتے ہیں۔ **اگر اس فارم پر دستخط کر کے آپ ہمیں اجازت نہیں دیتے ہیں تو ہم آپ کی نمائندگی نہیں کر سکیں گے۔**

اس فارم میں ٹک کا نشان لگانے والے دو اضافی خانے بھی موجود ہوں گے جن میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ ASAP کے ذریعہ مستقبل میں رابطہ کیے جانے پر آمادہ ہیں اور کیا آپ ASAP کو اپنے / اپنے خاندان کے کیس کی تفصیلات کا اشتراک ہوم آفس کے ساتھ کرنے کی اجازت دیتے ہیں، تاکہ مستقبل میں پناہ گزینوں کی اعانت کی پالیسیوں اور فیصلہ سازی کے عمل کو بہتر بنایا جائے۔ ہمارے ذریعہ آپ کی نمائندگی کیے جانے کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ ان اضافی خانوں میں ٹک لگائیں اور یہ مکمل طور پر آپ کی اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ اگر آپ ان پر ٹک نہیں لگاتے ہیں،

Asylum Support Appeals Project, Studio 11/12, Container City Building,

48 Trinity Buoy Wharf, London, E14 0FN

tel: 020 3716 0284 | fax: 020 3716 0272 | www.asaproject.org

email: referrals@asaproject.org.uk

Company registered in England and Wales number 04763838 | Registered charity number 1105625

For more information about how we use your data, please read our Privacy Notice: www.asaproject.org/privacy

ASAP

www.asaproject.org.uk

ASYLUM
SUPPORT
APPEALS
PROJECT

تو بھی ہم آپ کی نمائندگی کریں گے۔ آپ مستقبل میں referrals@asaproject.org.uk پر رابطہ کر کے کسی بھی وقت اپنی رضامندی واپس لے سکتے ہیں۔

Asylum Support Appeals Project, Studio 11/12, Container City Building,

48 Trinity Buoy Wharf, London, E14 0FN

tel: 020 3716 0284 | fax: 020 3716 0272 | www.asaproject.org

email: referrals@asaproject.org.uk

Company registered in England and Wales number 04763838 | Registered charity number 1105625

For more information about how we use your data, please read our Privacy Notice: www.asaproject.org/privacy